



سوال

(117) جو شخص مرثیہ خوانی کرے اور محفل تعزیرہ دای میں جاوے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جو شخص مرثیہ خوانی کرے اور محفل تعزیرہ دای میں جاوے۔ اس کے پیچھے نماز درست ہے کہ نہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص مرثیہ خوانی کرے اور محفل تعزیرہ دای میں جاوے۔ سو ایسا شخص اگر نماز پڑھا رہا ہو۔ اور کوئی اس کے ساتھ نماز میں شریک وہ جاوے۔ تو اس کی نماز ہو جاوے گی۔ مگر ایسے شخص کو بالقصد امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور نماز پڑھانے کے لئے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ مرثیہ خوانی اور تعزیرہ داری بلاشبہ فسق و فجور کے کام ہیں۔ اور فسق و فجور کے کام سے جو راضی ہو اور اس کی محفل میں جاوے وہ بھی فاسق ہے۔ اور فاسق کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے۔ مگر اس کو بالقصد امام نہیں بنانا چاہیے۔ حررہ عبد الرحیم اعظم گڑھی کوپوی۔
- فتاویٰ نذیریہ جلد 1 ص 275 سید محمد نذیر حسین دہلوی۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 11 ص 411

محدث فتویٰ